

کارڈف اور ویل آف گلیمرگن میں دماغی صحت سے متعلقہ خدمات

کارڈف اینڈ ویل ایکشن برائے دماغی صحت (cavamh) کی ویب سائٹ دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ۔ یہ ویب سائٹ cavamh کے کام سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے اور کارڈف اور ویل آف گلیمرگن میں دماغی صحت سے متعلقہ خدمات کی آن لائن ڈائریکٹری مہیا کرتی ہے۔

یہ ڈائریکٹری ان خدمات پر معلومات فراہم کرتی ہے جو دماغی صحت سے متعلقہ ضروریات رکھنے والے لوگوں کے لئے دستیاب ہیں۔ یہ بچوں اور کمسن لوگوں، بالغوں اور عمر رسیدہ لوگوں سے متعلقہ خدمات کا احاطہ کرتی ہے۔

اس میں درج ذیل چیزوں کے بارے میں معلومات شامل ہیں:

- قانونی معاملات – مثال کے طور پر دماغی صحت سے متعلقہ قانون، دماغی صلاحیت سے متعلقہ قانون اور نگہداران سے متعلقہ قانون
- قانونی سیکٹر، مثلاً کارڈف اینڈ ویل یونیورسٹی ہیلتھ بورڈ، کارڈف اور ویل آف گلیمرگن کے مقامی حکام اور پولیس کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات۔
- تیسرے سیکٹر کی تنظیموں کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات
- ٹیلیفون ہیلپ لائنوں کی ایک فہرست۔

خدمات تک کس طرح رسائی حاصل کریں

اگر آپ کو پہلی بار ان خدمات تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو عام طور پر آپ کو سب سے پہلے اپنے GP سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ GP متعلقہ ضرورت کی تشخیص کرے گا اور آپ کے علاقہ کا احاطہ کرنے والی پرائمری منٹل ہیلتھ سپورٹ سروس یا پھر کمیونٹی منٹل ہیلتھ ٹیم کے پاس بھیجے گا۔

اگر GP متعلقہ ضرورت کی تشخیص ایمرجنسی کے طور پر کرتا ہے (جہاں کسی شخص کو خود یا دوسرے لوگوں کو خطرہ لاحق ہے) تو فوری تشخیص کو یقینی بنانے کے لئے ایک ضابطہ پایا جاتا ہے۔

زبان سے متعلقہ ضروریات

درج ذیل قانونی ایجنسیاں جہاں ضرورت ہو ترجمانی کی خدمت تک رسائی حاصل کرنے کی اہل ہیں:

- کارڈف اینڈ ویل یونیورسٹی ہیلتھ بورڈ (کارڈف اور مشرقی ویل آف گلیمرگن میں دماغی صحت سے متعلقہ خدمات فراہم کرتا ہے): ترجمانی کی خدمات آمنے سامنے یا پھر بذریعہ ٹیلیفون فراہم کی جاتی ہیں۔ یومیہ 24 گھنٹے، ہفتہ وار 7 دن رسائی حاصل کرنے کی خاطر عملہ کے لئے ترجمانی دستیاب ہے۔
- ویل آف گلیمرگن کونسل – ترجمانوں تک آمنے سامنے یا پھر بذریعہ ٹیلیفون رسائی حاصل کرنے کی اہل ہے
- کارڈف کونسل
- Abertawe Bro Morgannwg یونیورسٹی ہیلتھ بورڈ (مغربی ویل آف گلیمرگن کا احاطہ کرتا ہے)
- جنوبی ویلز کی پولیس – یومیہ 24 گھنٹے، ہفتہ وار 7 دن آمنے سامنے یا بذریعہ ٹیلیفون ترجمانوں تک رسائی حاصل کرنے کی اہل ہے

کارڈف اینڈ ویل ایکشن برائے دماغی صحت (cavamh) کو تاثر

ہم اس ویب سائٹ اور ڈائریکٹری سے متعلق ایسے کسی بھی قسم کے تاثر کا خیر مقدم کریں گے جس سے ہم اسے بہتر بنانے کا عمل جاری رکھ سکیں۔ شکریہ